

7	וַיַּעֲלֶה	מִבְּנֵי־	יִשְׂרָאֵל	וּמִן־	הַזִּקְנִים	וְהַלְוִיִּם	וְהַמְּשֻׁרָיִם	וְהַשְּׂעִרִים
	اور-چڑھے	من-بیٹوں-	اسرائیل-کے	اور-من-	ال-کابوں	اور-ال-لاویوں	اور-ال-گانے-والوں	اور-ال-دربانوں
	H5927		H3478		H3548	H3881	H7891	H7778

وְהַנְּתִיבִים	אֶל־	יְרוּשָׁלַם	בְּשָׁנַת־	שִׁבְעַ	לְאַרְתַּחְשֶׁשְׁתָּא	הַמֶּלֶךְ:
اور-ال-تنبییم	الی-	یروشلم	پ-سال-	سات	لے-ارتخشستا	ال-بادشاہ-کے
H5411	H0413	H3389	H8141	H7651		H4428

کے حکومت کی بادشاہ ارتخشستا یہ تھے۔ شامل میں اُن بھی گار خدمت اور دربان کے گھر کے رب اور گلوکار لاوی، امام، گئے۔ ساتھ کے اُس اسرائیلی کئی ہوا۔ میں سال ساتویں

8	וַיָּבֵא	יְרוּשָׁלַם	בְּחֹדֶשׁ	הַחֲמִישִׁי	הָיָא	שְׁנַת	הַשְּׁבִיעִית	לְמֶלֶךְ:
	اور-آیا	یروشلم	پ-ال-مہینے	ال-پانچویں	وہ	سال	ال-ساتواں	لے-ال-بادشاہ-کے
	H0935	H3389	H2320	H2549	H1931	H8141	H7637	H4428

تھا۔ پر عزرا ہاتھ شفیق کا اللہ کیونکہ پہنچا، یروشلم سلامت صحیح دن پہلے کے مہینے پانچویں اور ہوا روانہ سے بابل دن پہلے کے مہینے پہلے قافلہ

9	כִּי	בְּאֶחָד	לְחֹדֶשׁ	הָרִאשׁוֹן	הָיָא	יְסֹד	הַמַּעֲלָה	מִבְּבֵל	וּבְאֶחָד	לְחֹדֶשׁ
	کیونکہ	پ-ایک	لے-ال-مہینے	ال-پہلے-کے	وہ	بنیاد	ال-چڑھنے-کی	من-بابل	اور-پ-ایک	لے-ال-مہینے
		H0259	H2320	H7223	H1931	H3246		H0894	H0259	H2320

הַחֲמִישִׁי	בָּא	אֶל־	יְרוּשָׁלַם	כִּי־	אֶלְהִיו	הַטּוֹבָה	עָלָיו:
ال-پانچویں-کے	آیا	الی-	یروشلم	کے-ہاتھ-	خدا-اُس-کے	ال-اچھے	علی-اُس-پر
H2549	H0935	H0413	H3389	H3027	H0430		

تھا۔ پر عزرا ہاتھ شفیق کا اللہ کیونکہ پہنچا، یروشلم سلامت صحیح دن پہلے کے مہینے پانچویں اور ہوا روانہ سے بابل دن پہلے کے مہینے پہلے قافلہ

10	כִּי	עֲזָרָא	הֵכִין	לְבָבוֹ	לְדָרוֹשׁ	אֶת־	תּוֹרַת	יְהוָה	וְלַעֲשׂוֹת	וְלְלַמֵּד
	کیونکہ	عزرا-نے	تیار-کیا	دل-اپنا	لے-ڈھونڈنے-کو	کو	توریت	خداوند-کی	اور-لے-کرنے-کو	اور-لے-سکھانے-کو
		H5830	H3824	H1875	H0853	H8451	H3068		H3925	

בְּיִשְׂרָאֵל	חֶק	וּמִשְׁפָּט:	ס
پ-اسرائیل	فریضہ	اور-قانون	*
H3478	H2706	H4941	

تعلیم کی ہدایات اور احکام کے اُس کو اسرائیلیوں اور گزارنے زندگی مطابق کے اُس کرنے، تفتیش کی شریعت کی رب کو آپ اپنے نے عزرا کہ تھی یہ وجہ تھا۔ کیا وقف لئے کے دینے

11	וַיִּזְהַר	פְּרִשְׁוֹן	הַנְּשִׂתּוֹן	אֲשֶׁר	נָתַן	הַמֶּלֶךְ	אֶרְתַּחְשֶׁשְׁתָּא	לְעֲזָרָא	הַזִּקְנִים	הַסֹּפֵר
	اور-یہ	نقل	ال-خط-کی	جو	دیا	ال-بادشاہ-نے	ارتخشستا	لے-عزرا	ال-کابن	ال-کاتب
	H2088		H5406		H5414	H4428		H5830	H3548	

סֹפֵר	דְּבָרַי	מִצְוֹת־	יְהוָה	וְחֻקָּיו	עַל־	יִשְׂרָאֵל:	פ
کاتب	باتوں	حکم-	خداوند-کے	اور-فرائض-اُس-کے	علی-	اسرائیل	*
H1697	H4687	H3068	H2706	H3478			

نے رب جو تھا عالم کا ہدایات اور احکام اُن اور اُستاد کا نوشتوں پاک جو کو عزرا اُسی دیا، دے مختارنامہ کا ذیل کو امام عزرا نے بادشاہ ارتخشستا تھا، لکھا میں مختارنامے تھیں۔ دی کو اسرائیل

12	אֶרְתַּחְשֶׁשְׁתָּא	מֶלֶךְ	מַלְכֵיָא	לְעֲזָרָא	כְּהֵנָּא	סֹפֵר	דְּתָא	דִּי־	אֱלֹהֵי	שְׁמַיָא	גְּמִיר
ارتخشستا	بادشاہ	بادشاہوں-کا	لے-عزرا	کابن	کاتب	شریعت-کا	جو-	خدا	آسمانوں-کا	کامل	
	H4430	H5831	H5613	H3549	H1882	H1768	H0426	H8065	H1585		

وְכַעֲנַת:
اور-اب
[H3706](#)

سلام، ہے، عالم کا شریعت کی خدا کے آسمان جو کو امام عزرا ارتخشستا شہنشاہ [] از:

13	מִנִּי	שֵׁים	מַעֲם	דִּי	כָּל-	מִתְנַדֵּב	בְּמַלְכוּתִי	מִן-	עֲמָה	יִשְׂרָאֵל
	من-مجھ	دیا-گیا	حکم	کہ	بر-	نذرانہ-دینے-والا	پ-سلطنت-میری	من-	قوم-اُس-کی	اسرائیل-کی
	H4481	H7761	H2942	H1768	H3606	H5069	H4437	H4481	H5972	H3479

וְכַהֲנֵהוּ: اور-کاہنوں-اُس-کے
 וְלִזְיוֹ: اور-لاویوں
 לְמַחְזְרָה: لے-جانے-کو
 לְיְרוּשָׁלַם: لے-یروشلم
 עִמָּךְ: ساتھ-تیرے
 יְהוּד: جائے

اور امام میں اس ہے۔ سکتا جا وہ تو چاہے رہنا وہاں کر جا یروشلم ساتھ کے آپ اسرائیلی بھی کوئی موجود میں سلطنت میری اگر کہ ہوں دیتا حکم میں ہیں، شامل بھی لاوی

14	כָּל-	כָּבֹד	דִּי	מִן-	קָדָם	מַלְכָא	וְשַׁבְּעַת	יַעֲמֹהוּ	שְׁלִיחַ	לְבַקְרָא	עַל-
	تمام-	بدلے	کہ	من-	قدام	بادشاہ	اور-سات	مشیروں-اُس-کے	بھیجا-تو	لے-جانچنے-کو	علی-
	H3606	H6903	H1768	H4481	H6925	H4430	H7655	H7972	H1240	H5922	

יְהוּד: یہوداہ
 اور-لے-یروشلم
 בְּדַת: پ-شریعت
 אֱלֹהֶיךָ: خدا-تیرے-کی
 דִּי: جو
 בִּיהָ: پ-ہاتھ-تیرے

اور یہوداہ ہے میں ہاتھ کے آپ جو میں روشنی کی شریعت اُس کی اللہ آپ تاکہ ہیں رہے بھیج یروشلم اور یہوداہ کو آپ مشیر سات کے اُس اور شہنشاہ لیں۔ جانچ حال کا یروشلم

15	וְלַהֲיִבְלָה	כֶּסֶף	וְדָהָב	דִּי-	מַלְכָא	וַיַּעֲמֹהוּ	הַתְּנַדְּבוּ	לְאַלְהָ	יִשְׂרָאֵל
	اور-لے-لے-جانے-کو	چاندی	اور-سونا	جو-	بادشاہ	اور-مشیروں-اُس-کے	نذرانہ-دیا	لے-خدا	اسرائیل-کے
	H2987	H3702	H1722	H1768	H4430	H5069	H5069	H0426	H3479

דִּי: جو
 בִּירוּשָׁלַם: پ-یروشلم
 מִשְׁכְּנָה: مسکن-اُس-کا
 H1768
 H3390
 H4907

لے ساتھ اپنے اُسے بے کی قربان لئے کے خدا کے اسرائیل والے کرنے سکونت میں یروشلم سے خوشی اپنی نے مشیروں کے اُس اور شہنشاہ چاندی سونا جو جائیں۔

16	وְכָל	כֶּסֶף	וְדָהָב	דִּי	תְּהַשְׁכַּח	כָּל	מְדִינַת	בָּבֶל	עִם	הַתְּנַדְּבוּ	עִמָּה
	اور-تمام	چاندی	اور-سونا	جو	پائے-تو	پ-تمام	صوبے	بابل-کے	ساتھ	نذرانہ	قوم-اُس-کی
	H3606	H3702	H1722	H1768	H7912	H3606	H4083	H0895	H5974	H5069	H5972

וְכַהֲנֵהוּ: اور-کاہنوں-اُس-کے
 נִזְרָה-دیتے-ہیں
 לְגֹהֵר: لے-گھر
 אֱלֹהֵהֶם: خدا-ان-کے
 דִּי: جو
 בִּירוּשָׁלַם: پ-یروشلم

کریں جمع لئے کے گھر کے خدا اپنے سے خوشی اپنی امام اور قوم بدیئے بھی جتنے اور گی جائے مل سے بابل صوبہ کو آپ چاندی سونا بھی جتنی نیز، جائیں۔ لے ساتھ اپنے انہیں

17	כָּל-	כָּבֹד	דָּהָב	אֶסְפְּרָנָא	תְּקִינָא	כְּכֶסֶף	דָּהָב	וְתוֹרִין	דְּכָרִין	אֲמִרִין	וּמִנְחָתָהוֹן
	تمام-	بدلے	اُس-کے	جلدی-سے	خریدے	پ-چاندی	اُس	بیل	مینڈھے	برے	اور-نذر-ان-کی
	H3606	H6903	H1836	H0629	H7066	H3702	H1836	H8450	H1798	H0563	H4504

וְנִסְכֵיהוֹן: اور-تیاون-ان-کی
 اور-چڑھاؤ
 הִלְמוּ: انہیں
 עַל-: علی-
 מִדְּבָחָה: مذبح
 דִּי: جو
 בֵּית: پ-گھر
 אֱלֹהֵכֶם: خدا-تمہارے-کے
 דִּי: جو
 בִּירוּשָׁלַם: پ-یروشلم

کی گھر کے خدا اپنے میں یروشلم انہیں اور لیں، خرید نذریں کی مے اور غلہ درکار لئے کے قربانیوں کی اُن اور بچے کے بھیڑ مینڈھے، بیل، سے پیسوں اُن کریں۔ قربان پر گاہ قربان

18	וּמָה	דִּי	[עלִי-תִּגְה]	(עֲלִיָּהּ)	וְעַל-	[אחִיד]	(אֶחָד)	יִיטֵב	בְּשָׂאָר	כִּסְפָּא
	اور-جو	جو	[علی-تجھ]	(علی-تجھ)	اور-علی-	[بہائیوں-تیرے]	(بہائیوں-تیرے)	اچھا-لگے	ب-باقی	چاندی
	H4101	H1768			H5922	H0252	H0252	H3191	H7606	H3702

وְדַהֲבָה	לְמַעַבְד	כְּרַעוֹת	אֶלְהֵם	תַּעֲבֲדוּן:
اور-سونے-میں	لے-کرنے-کو	کے-مرضی	خدا-تمہارے-کے	کرو-گے
H1722	H5648	H7470	H0426	H5648

بو۔ مطابق کے مرضی کی خدا کے آپ کہ ہے یہ شرط لگے۔ مناسب کو آپ جیسے ہیں سکتے کر خرچ ویسے بھائی کے آپ اور آپ کو آن جائیں بچ پیسے جو

19	וּמֵאֲנִיאַ	דִּי-	מִתִּיהֶבִין	לָךְ	לְפָלְחֵן	בֵּית	אֶלְהָךְ	הַשְּׁלֹם	קָדָם	אֱלֹהִים	יְרוּשָׁלַם:
	اور-برتن	جو-	دیے-جاتے-ہیں	لے-تجھ	لے-خدمت	گھر	خدا-تیرے-کے	پہنچاؤ	قدام	خدا	یروشلم-کے
	H3984	H1768	H3052	H6402	H1005	H0426	H8000	H6925	H0426	H3390	

گی۔ جائیں دی لئے کے خدمت میں گھر کے رب کو آپ جو پہنچائیں چیزیں تمام وہ کو خدا اپنے میں یروشلم

20	וּשְׂאָר	חֲשָׁחוֹת	בֵּית	אֶלְהָךְ	דִּי	יִפְל-	לָךְ	לְמִנְתָן	תִּנְתָּן	מִן-	בֵּית	גְּזוּ
	اور-باقی	ضرورت	گھر	خدا-تیرے-کے	جو	پڑے-	لے-تجھ	لے-دینے-کو	دے	من-	گھر	خزانوں
	H7606	H2819	H1005	H0426	H1768	H5308	H5415	H5415	H5415	H4481	H1005	H1596

מְלָכָא:
بادشاہ-کے
[H4430](#)

گا۔ کرے ادا خزانہ شاہی پیسے کے اُس پڑے خریدنا لئے کے گھر کے خدا اپنے کو آپ بھی کچھ جو باقی

21	וּמְנִי	אֲנִיה	אַרְתַּחֲשִׁסְתָּא	מְלָכָא	שִׁים	טַעֲם	לְכָל	זִבְרִיא	דִּי	בַעֲבָר	נַהֲרָה
	اور-من-مجھ	میں	ارتخشستا	بادشاہ-نے	رکھا	حکم	لے-تمام	خزانچیوں	جو	پ-یار	دریا-کے
	H4481			H4430	H7761	H2942	H3606	H1490	H1768	H5675	H5103

דִּי	כָּל-	דִּי	יְשָׁאֲלֵנְכוֹן	עֲזָרָא	כְּהִנָּה	סִפָּר	דְּתָא	דִּי-	אֱלֹהִים	שְׁמַיָּא	אֶסְפְּרָנָא
کہ	تمام-	جو	مانگے-تم-سے	عزرا	کابن	کاتب	شریعت-کا	جو-	خدا	آسمانوں-کا	جلدی-سے
H1768	H3606	H1768	H7593	H5831	H3549	H5613	H1882	H1768	H0426	H8065	H0629

יְתַעֲבֵד:
کیا-جائے
[H5648](#)

بھی جو کریں۔ مدد مالی کی امام عزرا سے طرح ہر کہ ہوں دیتا حکم کو خزانچیوں تمام والے رہنے میں مغرب کے فرات دریائے بادشاہ ارتخشستا میں،
جائے۔ دیا اُسے وہ مانگے اُستاد یہ کا شریعت کی خدا کے آسمان

22	עַד-	כִּסְפָּא	בְּכַרְוִין	מְאָה	וְעַד-	חֲנִישִׁין	כְּרִין	מְאָה	וְעַד-	חֲמֵר	בְּתִין	מְאָה	וְעַד-
تک-	چاندی	قنطار	سو	اور-تک-	گندم	کور	سو	اور-تک-	شراب	بت	سو	اور-تک-	
H5705	H3702	H3604	H3969	H5705	H2591	H3969	H5705	H2562	H1325	H3969	H5705		

בְּתִין
بت
[H1325](#)

מְשַׁח
تیل
[H4887](#)

מְאָה
سو
[H3969](#)

וּמְלָח
اور-نمک
[H4416](#)

דִּי-

لָא

کتاب:

حد

[H3792](#)

نہیں

[H3809](#)

جو-

[H1768](#)

چاہے۔ وہ جتنا ملے اتنا اُسے نمک دینا۔ تک تیل کا زیتون لٹر 2,200 اور مے لٹر 2,200 گندم، گرام کلو 16,000 چاندی، گرام کلو 3,400 اُسے

23	כָּל-	דִּי	מִן-	טַעֲם	אֱלֹהִים	שְׁמַיָּא	יְתַעֲבֵד	אֲדַרְזָא	לְבֵית	אֱלֹהִים	שְׁמַיָּא	דִּי-
تمام-	جو	من-	حکم	خدا	آسمانوں-کے	کیا-جائے	تیزی-سے	لے-گھر	خدا	آسمانوں-کے	کہ-	
H3606	H1768	H4481	H2941	H0426	H8065	H5648	H0149	H1005	H0426	H8065	H1768	

לְמָה
لے-کیوں

[H4101](#)

לְהִיא

بو

[H1934](#)

קִצְף

غضب

[H7109](#)

עַל-

سلطنت

[H4437](#)

מְלָכוֹת

بادشاہ-کے

[H4430](#)

מְלָכָא

اور-بیٹوں-اُس-کے

[H1123](#)

וּבְנֹהֵי:

بن نشانہ کا غضب کے اُس سلطنت کی بیٹوں کے اُس اور شہنشاہ کہ ہو نہ ایسا مانگے۔ لئے کے گھر اپنے خدا کا آسمان جو کریں مہیا کچھ سب سے دھیان
جائے۔

24	וּלְכֶם	מְהוֹדְעִין	דַּי	כָּל-	כְּהִנְיָא	זְמַרְיָא	תְּרַעְיָא	נְתִינְיָא	וּפְלָחִי	בֵּית
	اور-لے-تم	خبر-دیتے-ہیں	کہ	تمام-	کابنوں	گانے-والوں	دربانوں	نتینیم	اور-خادموں	گھر
	H3046	H1768	H3606	H3549	H3879	H2171	H8652	H5412	H6399	H1005

اَلֵהָא	דְּנָה	מְנַדְּהָ	בְּלֹא	וְהַלֵּךְ	לֹא	שְׁלִיט	לְמַרְמָא	עֲלֵיהֶם:
خدا-کے	یہ	خراج	ٹیکس	اور-محصول	نہیں	اختیار	لے-ڈالنے-کو	علی-ان-پر
H0426	H1836	H4061	H1093	H1983	H3809	H7990	H7412	H5922

وہ خواہ ہے، نہیں اجازت کی لینے ٹیکس کا قسم کسی یا خراج بھی سے شخص کسی والے کرنے خدمت میں گھر اس کے اللہ کو آپ کہ ہو علم کو آپ نیز، ہو-گار خدمت کا اُس یا دربان کا گھر کے رب گلوکار، لاوی، امام،

25	וְאֵנָה	עֲזָרָא	כְּחֻכְמַת	אֵלֶיךָ	דַּי-	בִּידְךָ	מְנִי	שְׂפָטִין	וְדִנְיָן	דַּי-
	اور-تو	عزرا	کے-حکمت	خدا-تیرے-کے	جو-	پ-ہاتھ-تیرے	مقرر-کر	قاضیوں	اور-منصفوں-کو	جو-
	H0607	H5831	H2452	H0426	H1768	H3028	H4483	H8200	H1782	H1768

לְהוֹן	רְאִינִין	דְּרִאִינִין	לְכָל-	עֲמָה	דַּי	בְּעֵבֶר	נְהַרְהָ	לְכָל-
ہوں	[فیصلہ-کرنے-والے]	(فیصلہ-کرنے-والے)	لے-تمام-	قوم-اُس-کی	جو	پ-پار	دریا-کے	لے-تمام-
H1934	H1778	H1778	H3606	H5972	H1768	H5675	H5103	H3606

יְדַעִי	דְּתִי	אֵלֶיךָ	וְדַי	לֹא	יָדַע	הַהוֹדְעוֹן:
جاننے-والوں	شریعت	خدا-تیرے-کے	اور-جو	نہیں	جاننا	سکھاؤ-کے
H3046	H1882	H0426	H1768	H3809	H3046	H3046

جو کریں انصاف کا لوگوں اُن کے قوم کی آپ جو کریں مقرر قاضی اور مجسٹریٹ مطابق کے اُس بے کی عطا کو آپ نے خدا کے آپ حکمت جو عزرا، اے آپ انہیں ہیں نہیں واقف سے احکام ان جتنے اور ہیں۔ شامل میں اس وہ ہیں جانتے احکام کے خدا کے آپ بھی جتنے ہیں۔ ربتے میں مغرب کے فرات دریائے بے۔ دینی تعلیم کو

26	וּכְלָ-	דַּי-	לֹא	לְהוֹא	עֲבָד	דְּתָא	דַּי-	אֵלֶיךָ	וְדָתָא	דַּי	מַלְכָא
	اور-تمام-	جو-	نہیں	ہو	کرنے-والا	شریعت	جو-	خدا-تیرے-کے	اور-شریعت	جو	بادشاہ-کے
	H3606	H1768	H3809	H1934	H5648	H1882	H1768	H0426	H1882	H1768	H4430

אֶסְפְּרָנָא	דִּינָה	לְהוֹא	מִתְעַבְד	מְנָה	הֵן	לְמוֹת	הֵן	[לשרשון]	(לשרשי)
جلدی-سے	فیصلہ	ہو	کیا-جائے	من-اُس	خواہ	لے-موت	خواہ	[لے-جڑ-سے-اکھاڑنا]	(لے-جڑ-سے-اکھاڑنا)
H0629	H1780	H1934	H5648	H4481	H4193			H8332	H8332

הֵן-	לְעֵנֵשׁ	נְכֻסִין	וְלֹאֶסְוִרִין:	פ
خواہ-	لے-جرمانا	مال	اور-لے-قید	*
	H6065	H5232	H0613	

تو یا اُسے کے کر لحاظ کا سنجیدگی کی جرم جائے۔ دی سزا سے سختی اُسے کرے ورزی خلاف کی قانون کے شہنشاہ اور شریعت کی خدا کے آپ بھی جو جائے۔ [ڈالا میں جیل اُسے یا جائے کی ضبط ملکیت کی اُس جائے، کیا جلاوطن یا جائے دی موت سزائے

27	בְּרוּךְ	יְהוָה	אֵלֵהֵי	אֲבוֹתֵינוּ	אֲשֶׁר	נָתַן	כְּזֹאת	בְּלֵב	תְּהַלֵּךְ	לְפָאֵר	אֶת-
	مبارک	خداوند	خدا	آباء-ہمارے-کا	جس-نے	رکھا	یہ-سا	پ-دل	ال-بادشاہ-کے	لے-جلال-دینے-کو	-کو
	H1288	H3068	H0430	H0001		H5414	H2063		H4428	H0853	

בֵּית	יְהוָה	אֲשֶׁר	בִּירוּשָׁלַם:
گھر	خداوند-کا	جو	پ-یروشلم
	H3068		H3389

بے۔ دی تحریک کی بنانے شاندار کو گھر کے رب میں یروشلم کو دل کے شہنشاہ نے جس ہو تمجید کی خدا کے دادا باپ ہمارے رب

שָׂרִי سرداروں H8269	וּלְכָל- اور-لے-تمام- H3605	וַיִּזְעַצְיוּ اور-مشیروں-اُس-کے H3289	הַמֶּלֶךְ ال-بادشاہ-کے H4428	לְפָנַי لے-سامنے H6440	רַחֲמֵי رحمت H5186	הַטָּה- جھکایا- H5186	וְעָלִי اور-علی-مجھ-پر H5186	
וַאֲקַבְּצָהּ اور-جمع-کیا-میں-نے H6908	עָלַי علی-مجھ-پر H0430	אֱלֹהֵי خدا-میرے H0430	יְהוָה خداوند H3068	כִּי- کے-باتھ- H3027	הַתְּחִזְקֵתִי مضبوط-ہوا H2388	וְאֲנִי اور-میں H0589	הַנְּבָרִים ال-طاقنور H1368	הַמֶּלֶךְ ال-بادشاہ-کے H4428
				עָמִי: ساتھ-میرے *	לְעֹלֹת لے-چڑھنے-کو H5927	רְאֲשִׁים سرداروں-کو	מִיִּשְׂרָאֵל من-اسرائیل H3478	

باتھ شفیق کا خدا میرے رب چونکہ ہے۔ دیا کر مائل طرف میری کو دلوں کے افسروں والے رکھنے رسوخ و اثر تمام اور مشیروں کے اُس شہنشاہ، نے اُسی کیا۔ جمع لئے کے جانے واپس اسرائیل ساتھ اپنے کو سرپرستوں خاندانی کے اسرائیل نے میں اور گیا، بڑھ حوصلہ میرا لئے اِس تھا پر مجھ